



## سوال

(26) مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کسی نبی یا ولی یا اور کسی کو خدا تعالیٰ کے سوا اپنی مشکل کشائی اور حاجت برادری کے لیے پکارنا اور اس سے مدد میں چاہنا اور مراد میں مانگنا شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سوائے خدا کے اور کسی کو خواہ نبی ہو یا ولی مشکل کے وقت پکارنا اور ان سے مدد چاہنا اور ان سے امید نفع اور ضرر کی رکھنا شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَحْتَفُونَ ۚ **۲۰** أَمْ لَمْ يَكْفُرُوا أَنَّىٰ يُؤْتَوْنَ ۚ **۲۱** ... سورة النحل

یعنی اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود آپ پیدا کئے گئے مردے ہیں زندہ نہیں ہیں ان کو خبر نہیں کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَأْتِيَانَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستَحُوا لَدُنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمَعُونَ لَهُ وَإِن يَسْلُبْنَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَاللَّطُوفِ **۷۳** مَا تَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ تَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ **۷۴** ... سورة الحج

یعنی اسے لوگو ایک مثل کسی جاتی ہے اس کو سونو۔ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سوہرگز نہ بنا سکیں ایک مکھی۔ اگرچہ سارے مجمع ہوں اور اگر کچھ پھین لے ان سے مکھی تو پھوڑا نہ سکیں اسے 'دونوں کمزور ہیں۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسی اس کی قدرت ہے' بیشک اللہ زور آور زبردست ہے۔

اور روایت میں ہے حضرت ابن عباس:

لكن قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه: يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظه تجابك وادع آسأت فقل الله وادع استغنت فاستغن بالله وادع التريدي

اور استغانت ایک قسم کی عبادت ہے۔ پس سوائے خدا کے کسی سے نہ چلیجیے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔ الاستغناء نوع تعبد انتہی

اور مجمع البخاری میں ہے۔



مجلس البحث الإسلامي  
محدث فتویٰ

فان العبادۃ وطلب الحاجج والاستغناء من اللہ وصدقة التقی  
صدما عندی والتدا علم بالصواب

## فتاویٰ مولانا شمس الحق عظیم آبادی

ص 161

محدث فتویٰ